

مسافرانِ آخرت

- رحیم یار خان میں قدیم احرار کارکن صوفی محمد اسحق (بستی مولویان) کی ہمیشہ اور محمد طارق چوہان کی پھوپھی صاحبہ، انتقال: ۲۸ مئی ۲۰۱۳ء
- چیچہ وطنی میں مولوی محمد رضوان اسلم اور حافظ محمد یاسر اسلم کی والدہ ماجدہ ۱۹ جون کو لاہور میں انتقال فرما گئیں
- چیچہ وطنی جماعت کے قدیم ساتھی، بھائی محمد حسین کے چھوٹے بھائی محمد سعید (عزیزم) عرفان سعید کے والد گرامی ۳ جون کو انتقال فرما گئے۔
- قاری عبدالغفار نقشبندی صاحب ۲۱ مئی کو جلاپور پیر والہ میں انتقال کر گئے
- چیچہ وطنی مجلس احرار اسلام کے قدیمی رفیق جناب حافظ محمد انور (2-4812) کی ہمیشہ صاحبہ ۲۴ جون کو انتقال کر گئیں۔
- کبیر والہ میں ہمارے کرم فرما محترم رانا محمد طاہر شفیق کی والدہ ماجدہ، انتقال: ۱۹ جون ۲۰۱۳ء بروز جمعہ اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے، حسنات قبول فرمائے اور درجات بلند فرمائے۔ پسماندگان کو صبر جمیل سے نوازے۔ (آمین) قارئین سے درخواست ہے کہ ایصالِ ثواب اور دعاءِ مغفرت کا خصوصی اہتمام فرمائیں (ادارہ)

دعائے صحت

- چیچہ وطنی جماعت کے سابق صدر حکیم شیخ محمد رفیق خادم شدید علیلی ہیں
- مجلس احرار اسلام ملتان کے قدیم کارکن عزیز الرحمن سجرانی علیلی ہیں
- مجلس احرار اسلام ملتان کے مخلص کارکن محمد بشیر چغتائی علیلی ہیں
- مجلس احرار اسلام ملتان کے نہایت مخلص کارکن بھائی سعید احمد کے والد علیلی ہیں
- احباب و قارئین سے دعائے صحت کی درخواست ہے (ادارہ)

نقشہ برائے ادائیگی زکوٰۃ

مولانا اعجاز صدیقی

(الف) وہ اثاثے جن پر زکوٰۃ واجب ہے:

- (۱) سونا (خواہ کسی شکل میں ہو) ----- مثلاً اس کی قیمت: 50,000/-
- (۲) چاندی (خواہ کسی شکل میں ہو) ----- 10,000/-
- (۳) مال تجارت یعنی بچنے کی حتمی نیت سے خرید ہوا مال، مکان، زمین^(۱) ----- 300,000/-
- (۴) بینک میں جمع شدہ رقم ----- 100,000/-
- (۵) اپنے پاس موجود نقد رقم ----- 100,000/-
- (۶) ادھار رقم (جس کے ملنے کا غالب گمان ہو)
- خواہ نقد رقم کی صورت میں دی ہو یا مال تجارت بچنے کی وجہ سے واجب ہوئی ہو ----- 50,000/-
- (۷) غیر ملکی کرنسی (موجودہ ریٹ سے) ----- 10,000/-
- (۸) کمپنی کے شیئرز جو تجارت (Capital Gain) کی نیت سے خریدے ہوں۔
- ان کی پوری قیمت (موجودہ مارکیٹ ویلیو) ----- 50,000/-
- (۹) جو شیئرز نفع (Dividend) کی غرض سے خریدے گئے، ان میں کمپنی کے ناقابل زکوٰۃ اثاثے (Operating Assets) جیسے بلڈنگ، مشینری وغیرہ کو منہا کیا جاسکتا ہے۔
- (اور بہتر یہ ہے کہ احتیاطاً ان کی پوری قیمت لگائی جائے) ----- 50,000/-
- (۱۰) بچت ٹھونڈلیٹ جیسے FEBC, NDFC, NIT (صرف اصل رقم پر زکوٰۃ ہوگی)^(۲) ----- 100,000/-
- (۱۱) کسی جگہ اپنی امانت رکھوائی ہوئی رقم، سونا، چاندی، مال تجارت ----- 10,000/-

(۱) اگر بچنے کی نیت نہ ہو بلکہ کرایہ پردے کرکمانے کی نیت ہو یا ویسے ہی سرمایہ محفوظ کرنے کے لیے کوئی جائیداد خریدی تو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔

(۲) اگرچہ موجودہ حالات میں ان کا خریدنا جائز نہیں۔